

دوسری طرف کولون یونیورسٹی (مغربی جرمنی) میں اسلامک اکیڈمی، جرمن زبان میں قرآن مجید کے ایک نئے ترجمہ کی اسکیم تیار کر رہی ہے۔ اکیڈمی کے صدر ڈاکٹر عبدالجواد لاٹوری اس کی تکمیل میں ازہر کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

(اخبار الترات العربیہ: ۲۲، ۲۳، ۲۴)

تفہیم القرآن کا ترجمہ روسی زبان میں :

افغان مجاہدین کی کوششوں سے مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ کی تفہیم القرآن کا ترجمہ روسی زبان میں لاہور سے ۶ جلدوں میں شائع ہو گیا ہے۔

(اخبار العالم الاسلامی ۲۸ رجب ۱۴۰۹ھ)

ازبک زبان میں ترجمہ قرآن کی اشاعت :

تاشقند: ۳ مارچ، ازبک سائنس اکادمی سے قرآن پاک کا ۲۰۰۰۰۰ کاپیوں پر مشتمل پہلا ایڈیشن اگلے سال تاشقند میں شائع کیا جائے گا۔

ازبک ماہر مشرقیات پروفیسر عصمت اللہ عبداللہ الیف نے اے پی این کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ قرآن شریف کی ازبک زبان میں اشاعت ہمارے ملک میں اہم اور بڑی تبدیلیوں کی وجہ سے ممکن ہو سکی ہے۔ ۶۳ سالہ پروفیسر عصمت اللہ عبداللہ الیف نے قرآن شریف کا ازبک زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ (قومی آواز- ۳ مارچ ۱۹۹۰ء)

سوویت جنرل میں قرآن پاک کی قسط وارا اشاعت :

اسکو ۲۳ مارچ، جنرل زویزواو دستو کا کے اس سال کے پہلے شمارے میں قرآن پاک کی اولین سویت شائع کی گئی ہیں اور آئندہ دو برسوں میں اس مقدس کتاب کے پورے متن کو شائع کرنے کا منصوبہ ہے ممتاز سوویت عربی داں ایگناتی کراچکو فسکی نے روسی میں ترجمہ کیا ہے اور فلسفی مطالب عثمانوف نے تفاسیر لکھی ہیں۔ (قومی آواز، ۲۴ مارچ ۱۹۹۰ء)